

یسودیوں کی مختلف تنظیموں کے تعاون سے عمل میں آیا تھا اور وہی لوگ اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مرکز کے زیر اہتمام کانفرنسوں میں امریکیوں کے علاوہ مختلف بین الاقوامی تنظیموں اور افراد نے گہری دلچسپی لی ہے۔

مذکورہ ادارے اور گروپ امریکہ کے ان بہت سے گروپوں میں سے چند ہیں جو امریکہ میں غیر مسلمانوں سے ڈائلاگ اور رابطے بڑھانے اور ان کے لیے معلوماتی پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ امریکی مسلمانوں کو درپیش اہم مسائل کے سلسلے میں ان پر مسلمانوں کا نقطہ نظر واضح کیا جائے اور ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

ان میں کئی مسلم تنظیموں کے پاس کمپیوٹر ہوم پیج (Computer Home Page) کی سہولت موجود ہے۔ جو لوگ اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں یا مختلف شعائر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ ورلڈ وائیڈ ویب (World Wid Eweb) یا اسلام کے بارے میں انٹرنیٹ میلنگ لسٹ سے رابطہ قائم کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

مختلف مسلم تنظیمیں اہم عرب اور اسلامی تہواروں اور تعطیلات اور ثقافتی تقریبات کے بارے میں اخبارات، رسائل اور دینی درسی کتابیں شائع کرتی ہیں۔ خواہش مند افراد ان تنظیموں سے دینی کتابیں اور قرآن کریم کے نسخے منگوا سکتے ہیں۔

متفرق

بائبل کے ترجمے ۲۰۶۲ زبانوں میں دستیاب ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں بولی جانے والی چھوٹی بڑی زبانوں کی تعداد چھ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے ۲۰۶۲ میں بائبل کے مکمل یا جزوی ترجمے موجود ہیں۔ ۱۹۹۳ء کے آخر میں "یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز" کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق عہد نامہ جدید ۹۹۷ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور مکمل بائبل ۳۳۷ زبانوں میں دستیاب ہے۔ ۹۲۶ زبانوں میں عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ جدید کی کم از کم ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔

بائبل کے تراجم کے بارے میں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی (برطانیہ) اور امریکن بائبل سوسائٹی (نیویارک، ریاست ہائے متحدہ امریکہ) معلومات یک جا کرتی ہیں۔ مسیحی متادوں اور مترجموں کا جوش و جذبہ دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ۱۹۹۳ء کے بعد بھی اکا دکا مزید زبانوں میں جزوی ترجمے ہوتے چلے گئے، یا پہلے سے موجود جزوی تراجم نے مکمل بائبل کا احاطہ کر لیا ہوگا۔